

8980 - زنا کی حد کون قائم کرے گا

سوال

جب خاندان والوں کا علم ہو کہ عورت نے غلطی کرتے ہوئے کسی شخص سے زنا کا ارتکاب کیا ہے یا پھر اس کے کسی دوسرے سے ناجائز تعلقات ہیں اس کا مکمل ثبوت نہ ملنے کے باوجود کیا اس عورت کو خاندان کے شرف و عزت کی خاطر انتقاماً قتل کرنا جائز ہے ؟

اور اگر ایسا کرنا جائز نہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کے بیان میں آیات و احادیث ذکر کریں جن سے یہ واضح ہوتا ہو کہ یہ معاملہ شرعی عدالت میں لے جائے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں ؟

اور کیا اس طرح کا کوئی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اللہ تعالیٰ نے جس نفس کو قتل کرنا حرام کیا ہے یقیناً اسے قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اسی بارہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے ، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے النساء (93) -

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے متعلق پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کی نافرمانی کرنا ، کسی نفس کو قتل کرنا ، جھوٹی گواہی دینا) صحیح بخاری حدیث نمبر (2510) صحیح مسلم حدیث نمبر (88) -

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(مومن اس وقت تک اپنے دین کی وسعت میں ہے جب تک حرام خون نہ بہا لے) صحیح بخاری حدیث نمبر (6469)

اور پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانی جائز نہیں ، اور پھر زنا کا ثبوت بھی اس وقت ہوتا ہے جب چار مرد اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے بعینہ زنا کا واقعہ دیکھا ہے ، اور انہوں نے فرج کوفر ج میں داخل دیکھا ہے یا پھر زنا کا ثبوت زانی عورت یا مرد کے اعتراف سے ہوتا ہے اور اس اعتراف میں کوئی اکراہ اور جبر نہ ہو ۔

اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ مسلمان عورت پر زنا کی تہمت ہے اور اس کی حد اسی کوڑے ہیں ۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

جولوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ پیش کرسکیں توانہیں اسی کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو یہی فاسق لوگ ہیں النور (4) ۔

ابوہریرہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(اے انیس اس عورت کے پاس جاؤ اگر وہ اعتراف کر لے تو اسے رجم کردینا ، راوی کہتے ہیں کہ : وہ اس عورت کے پاس گئے تو اس نے اعتراف کر لیا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا) صحیح بخاری حدیث نمبر (2575) صحیح مسلم حدیث نمبر (1698) ۔

اللہ تعالیٰ نے زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے محدود سزا مقرر کی ہے لہذا زانی مرد و عورت اگر شادی شدہ ہوں توانہیں رجم کیا جائے گا ، اور جو شادی شدہ نہ ہو اسے ایک سو کوڑے مارے جائیں گے ۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

زنا کا مرد و عورت میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ ، ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو ، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے النور (2) ۔

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلم قبیلہ کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے وہ شخص کہنے لگا کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کر لیا ، لہذا وہ شخص اس طرف آیا جس طرف آپ نے اعراض کیا تھا اور اس نے اپنے آپ پر چار گواہیاں دیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمانے لگے :

کیا تم مجنون ہو؟ اس نے جواب میں کہا نہیں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا شادی شدہ ہو ؟ تو اس نے جواب میں کہا جی ہاں ، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عید گاہ میں رجم کرنے کا حکم دیا ، جب اسے پتھر لگے تو وہ بھاگ اٹھا تو اسے حرہ نامی جگہ پا کر قتل کر دیا گیا ۔

صحیح بخاری حدیث نمبر (4969) صحیح مسلم حدیث نمبر (1691)

اگر یہ کہا جائے کہ زنا کی حد کون لگائے گا ؟

تواس کا جواب یہ ہے کہ :

کسی ایک کے بھی یہ لائق نہیں کہ وہ حکمران کی اجازت کے بغیر ہی حدود نافذ کرے ، اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلے کرنے والا حکمران اور سلطان نہ ہو تو عام لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ حدود کا نفاذ کریں ، کیونکہ حد نافذ کرنے کے لیے اس کے ثبوت اور اسے نافذ کرنے کے لیے اجتہاد اور شرعی علم کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ اسے علم ہو سکے کہ حد کب ثابت ہوگی اور کب نفی ہوگی اور اس کی شروط کیا ہیں --- الخ

اور عام لوگ اس کا علم ہی نہیں رکھتے ، اور پھر عام لوگ اگر حدود نافذ کرنا شروع کر دیں تو اس پر بہت ہی زیادہ فساد مرتب ہونگے ، اور معاشرے کا امن تباہ ہو کر رہ جائے گا ، اس طرح لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنی شروع کر دیں گے اور ایک دوسرے پر الزام لگا کر حدود نافذ کرنے کی دلیل دیتے ہوئے ایک دوسرے کو ہی قتل کرنا شروع کر دیں گے ۔

امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قتل کا قصاص اولی الامر کے علاوہ کوئی اور نہیں لے سکتا اولی الامر ہی ہیں جن پر قصاص اور حدود کا نفاذ کرنا واجب اور فرض ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب مومنوں کو قصاص کے ساتھ مخاطب کیا ہے ، پھر سب مومنوں کے لیے یہ نہیں تیار کیا گیا ہے وہ قصاص پراکٹھے ہو جائیں ، بلکہ سلطان اور حکمران کو قصاص اور دوسری حدود نافذ کرنے میں ان کے قائم مقام بنایا ۔

دیکھیں : تفسیر القرطبی (2 / 245 - 246) ۔

اور ابن رشد رحمہ اللہ کہتے ہیں :

اور اس حد (یعنی شراب نوشی کرنے والے کو کوڑے مارنے) کو نافذ کون کرے گا ؟ علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ امام و حکمران اس حد کو نافذ کرے گا اور اسی طرح باقی ساری حدود کے نفاذ میں بھی ۔

دیکھیں : بدایۃ المجتہد لابن رشد (2 / 233) ۔

اور امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

ابوالزناد اپنے باپ اور وہ ان فقہاء سے بیان کرتے ہیں جن کے اقوال اہل مدینہ تک جا کر ختم ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے

کہ : کسی ایک کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ حکمران اور سلطان کے بغیر ہی حدود کا نفاذ کرے ، لیکن مالک اپنے غلام اور لونڈی پر حد نافذ کرسکتا ہے ۔

دیکھیں : نیل الاوطار للشوکانی (7 / 295 - 296) ۔

اور عورت کے خاندان والوں پر فرض اور ضروری ہے کہ وہ اسے فحاشی اور بدکاری سے منع کریں اور اسے فحاشی کے ہر قسم کے اسباب سے بھی منع کرتے ہوئے بے پردگی کرنے اور اجنبی مردوں سے بات چیت کرنے سے روکیں ، اور اسی طرح ہراس سبب سے جس کی بنا پر برا کام کرنا ممکن ہو سے بھی منع کریں ، اور اگر وہ ایسے کاموں اور اسباب سے قید و بند کے بغیر نہیں رکتی تو گھر والوں کے جائز ہے کہ وہ اسے گھر میں قید بھی کر دیں ۔

لیکن اسے قتل کرنا جائز نہیں ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارہ میں سوال کیا گیا جو شادی شدہ اور صاحب اولاد بھی تھی اور اس نے ایک مرد سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے ، اور جب یہ تعلقات ظاہر ہوئے تو اس نے خاوند سے علیحدگی کی کوشش کرنا شروع کر دی ، تو کیا اس فعل کے بعد اسے اپنی اولاد پر کوئی حق باقی رہتا ہے ؟ اور کیا ان پر اس سے قطع تعلقی کرنے میں کوئی گناہ ہے ؟

اور جس شخص کو اس کا ثبوت مل جائے تو کیا اس کے لیے اس عورت کو خفیہ طریقہ سے قتل کرنا جائز ہے ؟ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور کرے تو وہ گنہگار ہوگا ؟

شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا :

اس عورت کی اولاد اور اس کے عصبات (یعنی مرد اقرباء) پر فرض ہے کہ وہ اسے حرام کاموں سے روکیں ، اور اگر وہ قید و بند کے بغیر نہیں رکتی تو اسے گھر میں ہی بند کریں اور اگر اسے قید کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہو تو اسے قید کر دیں ، اور بیٹے کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنی ماں کو زدکوب کرے ، اور ماں کو اس سے نیکی و احسان کرنے سے منع نہیں کرسکتے ، اور ان کے لیے قطع تعلقی کرنا جائز نہیں کہ اس سے برائی میں جا پڑے گی ، بلکہ وہ حسب استطاعت اسے برائی سے روکیں ، اور اگر وہ کھانے پینے اور لباس کی ضرورت مند ہو تو اسے کھانا پینا اور لباس دیں ۔

ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس پر قتل وغیرہ کی حد نافذ کریں ایسا کرنے میں وہ گنہگار ہونگے ۔

دیکھیں : مجموع الفتاویٰ الکبریٰ لابن تیمیہ (34 / 177 - 178)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی چند ایک عورتوں نے زنا کا ارتکاب کیا تو ان کے خاندان میں سے کسی نے بھی ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا ، ان میں ایک عورت غامدی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا :

بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ : --- ازد قبیلے کی شاخ غامد کی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی : اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کریں ، تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تیرے لیے ہلاکت ہواللہ تعالیٰ سے توبہ واستغفار کرو ، تووہ کہنے لگی میرے خیال میں آپ مجھے بھی اسی طرح واپس بھیج رہے ہیں جس طرح ماعز بن مالک (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو واپس کیا تھا ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تجھے کیا ہے ؟ وہ کہنے لگی وہ زنا سے حاملہ ہے ، تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو؟ وہ کہنے لگی جی ہاں ، تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا : وضع حمل کے بعد آنا، راوی کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے وضع حمل تک اس کی کفالت کی ، راوی کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہنا لگے غامدیہ عورت نے بچہ جن دیا ہے تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

ہم اسے رجم نہیں کریں گے اور اس کا چھوٹا سا بچہ ویسے ہی چھوڑ دیں جسے دودھ پلانے والا ہی کوئی نہ ہو ، توایک انصاری شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رضاعت میرے ذمہ ، راوی کہتے ہیں کہ تو اسے رجم کر دیا گیا ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر (1695) ۔

اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ اس عورت کے خاندان والے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قتل کی مستحق ہے ان کا یہ دعویٰ اس کے علاوہ بھی کئی ایک اعتبار سے غلط ہے جو یہ ہیں :

1 - اگر ان کے بیٹوں یا بھائیوں میں سے کوئی ایک زنا کا ارتکاب کر لے تو بلاشبہ یقیناً وہ یہی کام ان کے ساتھ نہیں کریں گے ، اور ان کا ایسا کرنا اہل جاہلیت کے عمل کے مشابہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے لیے زنا مباح کر رکھا تھا اور عورتوں کے لیے نہیں ، اور جب ان کی عورتیں یہ کام کریں تو ان کی عزت و شرف میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور انہیں حمیت گھیر لیتی ہے ، لیکن اگر ان کے بیٹے یا بھائی یہی کام کریں تو ان کے لیے دین کی کوئی حمیت ظاہر نہیں ہوتی ، بلکہ بعض باپ تو اپنے بیٹے کی برائی پر فخر کرتے ہیں اور اسے ایسا کرنے پر ابھارتے ہیں ۔

2 - انہوں نے خود ہی عورتوں کے لیے فحاشی کا دروازہ کھولا ہے ، اور عورت کو مختلط سکولوں میں تعلیم اور گندی صحبت و دوستی اور حرام کاموں کے مشاہدہ کرنے اور بری مجالس میں بیٹھنے کی اجازت دی تو اس کام نے ان کے دل تباہ کر کے رکھ دیے اور اسے فحاشی کے ساتھ وابستہ کر دیا ۔

اور کچھ لوگ تو اپنی بیٹی یا بہن کی شادی ہی نہیں کرتے بلکہ اس کی شادی کی عجیب و غریب شرطیں رکھتے ہیں جو پوری کرنا ہی مشکل ہوتی ہیں ، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ لوگ عورت کو سزا دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ تو خود سزا کے زیادہ مستحق ہیں ۔

3 - وہ زنا جیسے فحش کام پر ہی قتل نہیں بلکہ وہ تو صرف بات چیت یا حرام تعارف کی بنا پر بھی قتل کر ڈالتے ہیں

جس کی شریعت میں سزا قتل نہیں۔

4 - وہ اس فارغ دلیل کے ساتھ ہراس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں جو اپنی بہن یا بیٹی کو قتل کرنا چاہتا ہے ، اور ہوسکتا ہے اس کے قتل کا سبب اس عورت کا مال ہویا پھر اس عورت کو ان کی کسی خفیہ چیز کا علم ہوچکا ہو جسے وہ چھپا کر رکھنا چاہتے تھے یا اس طرح کا کوئی اور سبب ۔

اور ہم وقتاً فوقتاً کفار یورپ یا مشرق میں س منحرف قسم کے لوگوں سے یہ سنتے رہتے ہیں جو بھی شرف و عزت کی بنا پر اپنی بہن یا بیٹی کو قتل کرے اسے بھی قتل کرنا چاہیے ، اس کا سبب یہ ہے کہ بہت سے قوانین میں اس سبب کی بنا پر قتل کرنے والے قاتل کو معافی دی گئی ہے ۔

اور اس طرح کی آوازیں اگرچہ صحیح ہی ہیں لیکن ہمیں یہ لائق نہیں دیتا کہ ہم ان اور ان کے دعووں سے دھوکہ کھاجائیں ، کیونکہ اس طرح کی آوازوں کا مقصد عورت کے خاندان والوں سے غیرت کو نکال باہر کرنا ، اور عورتوں کے لیے دروازہ کھولنا تاکہ وہ فحاشی کی مرتکب ہوں ، یہ مقصد ہوتا ہے ۔

عورتوں کے اولیاء پر ضروری اور واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ و ڈر اختیار کریں اور جوان کے ماتحت ہیں انہیں فحاشی کے کاموں سے روکیں ، اور اسی طرح اس کے اسباب سے بھی روکیں ، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی کوتاہی یا پھرتشدد سے کام نہ لیں جس کا شریعت انکار کرتی ہے ۔

واللہ اعلم .